



کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اس اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، کبھی روز رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں جس نے میری سنت سے گریز کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتا ہے: نبی ﷺ کے کچھ صحابہؓ نے نبی ﷺ کی ازواج مطہرات سے نبی ﷺ کی تنائی کے معمول کے بارے میں پوچھا (آپ ﷺ کی عبادت کا معمول سن کر) ان میں سے کسی نے کہا کہا میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور کسی نے کہا کہا میں بستر پر نہیں سوؤں گا (نبی ﷺ تک جب یہ بات پہنچی) تو آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے حمد و شنا کے بعد فرمایا: "کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اس اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، کبھی روز رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں جس نے میری سنت سے گریز کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے"

[صحيح] [متفق عليه]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہؓ آپ کی بیویوں کے گھروں میں آئے ان کا مقصد یہ جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کس طرح عبادت کرتے ہیں؟ جب ان کو آپ کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا، تو گویا انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہتا لگا: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہاں اور ہم کہاں؟ آپ کے تو اگلا اور پچھلا تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں اس کے برخلاف جسے معلوم نہ ہو کہ اسے بخشنا جائز گا یا نہیں، اسے زیاد سے زیاد عبادت کی ضرورت ہے، تاکہ بخشش کا سامان ہو جائز اس کے بعد ان میں سے کسی نے کہا کہا میں شادی نہیں کروں گا کسی نے کہا کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا جب کہ کسی نے کہا کہا میں بستر پر نہیں سوؤں گا اس کی اطلاع جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، تو آپ نے کہا کہا اور ارضگی طاہر کی لوگوں سے خطاب کیا اللہ کی حمد و شنا کی اور فرمایا: کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، میں تمہارے درمیان اللہ کی خشیت سے سب سے زیاد متصف اور اس کا سب سے زیاد تقوی رکھنے والا انسان ہوں لیکن اس کے باوجود میں سوتا ہوں، تاکہ پورا نشاط کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ سکوں، روز کے بغیر رہتا ہوں، تاکہ روز کی طاقت حاصل کر سکوں اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں لہذا جس نے میرے طریقے سے من موزا، کسی اور طریقے کو کامل طریقہ جانا اور میرے علاوہ کسی اور کی را کو اختیار کیا، وہ مجھے میں سے نہیں ہے



النّجَاةُ الْخَيْرِيَّةُ  
ALNAJAT CHARITY

